



سوال

دونوں آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں

جواب

الحمد للہ

ان دونوں آیتوں کے درمیان تعارض نہیں ہے، پہلی آیت ان لوگوں کے بارہ میں ہے جو توبہ کے بغیر شرک پر ہی مر گئے تو انہیں بخشا نہیں جائے گا بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے :

یقیناً جا لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانا جہنم ہی ہے اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا المائدہ (72)

اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے :

اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو وہ جو بھی اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے الانعام (88)۔

اور اس معنی کی بہت ساری آیات ہیں، اور دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

اور بیشک جو توبہ کرتا اور ایمان لاتا اور اعمال صالحہ کر کے ہدایت اختیار کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں طہ (82)۔

یہ آیت ان لوگوں کے بارہ میں ہے جو شرک سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ :

(میری جانب سے) کہہ دو کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے

، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے الزمر (53)۔

اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق بخشنے والا ہے۔

ماخذ: مجموع فتاویٰ و مقالات لفضیلۃ الشیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ (4/419)